

# چھوٹا کاروبار اور صحت بیمہ

اسمال بزنس ہیلتھ کیئر ٹیکس کریڈٹ سے آپ کو اپنے ملازمین کے لیے صحت بیمہ خریدنے میں مدد مل سکتی ہے۔

حسب مقدور نگہداشت سے متعلق ایکٹ (Affordable Care Act) نے ایک نیا ٹیکس کریڈٹ بنایا تاکہ اسمال بزنس کو اپنے ملازمین کو صحت بیمہ پیش کرنے میں مدد ملے۔

کیا میں اس کریڈٹ کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟

یہ بعض چھوٹے کاروباروں کو اپنے ملازمین کے صحت کے بیمہ کے اخراجات کے 50% تک کے ٹیکس کریڈٹ کا دعویٰ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

ٹیکس سے مستثنیٰ اسمال بزنس کے لیے، کریڈٹ 35% تک زیادہ ہو سکتا ہے اور یہ قابل واپسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر منفعتی چھوٹے کاروبار کو بینیفٹ کے لیے انکم ٹیکس کی کوئی جوابدہی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔



کے لیے کریڈٹ کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے:

عام طور پر، ایسے منفعتی اور غیر منفعتی کاروبار کے لیے کریڈٹ کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے:

● جس کے پاس 25 سے کم ملازمین ہوں اور اوسط تنخواہیں قریب \$50,000 یا اس سے کم ہوں (سبھی مالکان کی تنخواہیں چھوڑ کر)۔

< عمومی طور پر، کاروبار کے لیے ملازمین کی تعداد اور اوسط تنخواہیں نکالتے وقت مالکان کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ نیز، ملازمین کی تعداد "کل وقتی ہم قدر" (full-time equivalents, FTEs) پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نصف وقتی ملازمین ایک کل وقتی ملازم کے برابر ہوں گے۔

● جو ملازمین کے لیے پریمیمز کی لاگت کا کم از کم نصف حصہ ادا کرتا ہو؛ اور

● نیو یارک اسٹیٹ کے ذریعہ چلنے والا NY State of Health کے اسمال بزنس منڈی کے ذریعہ کوریج پیش کرتا ہو۔

کریڈٹ تدریجی پیمانے پر دستیاب ہے نیز آجر کے پاس 25 ملازمین یا اوسط اجرت قریب \$50,000 یا زائد ہو جانے پر کریڈٹ ختم ہو جاتا ہے۔



نگہداشت صحت میں اصلاح اور چھوٹے کاروبار کے بارے میں مزید جانیں ہیلتھ کیئر ٹیکس کریڈٹ، NY State of Health [nystateofhealth.ny.gov](http://nystateofhealth.ny.gov) پر ملاحظہ کریں یا 1-855-355-5777 پر کال کریں۔

کیا میں صحت بیمہ پیش کرنے کے لیے کوئی دیگر ٹیکس بریکس حاصل کر سکتا ہوں؟

ہاں، سبھی کاروبار ملازم کے صحت بیمہ کی لاگت کے لیے انکم ٹیکس میں تخفیف کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک "معمولی اور لازمی" کاروباری خرچ ہے۔

دو قسم کے ٹیکس بریکس کو ملا کر، اہل اسمال بزنس لاگت کے 50% تک کے لیے ہیلتھ کیئر ٹیکس کریڈٹ کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور باقی لاگتوں کے لیے ایک تخفیف کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ (اگر آپ ہیلتھ کیئر ٹیکس کریڈٹ کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ اپنے صحت بیمہ کی لاگتوں کے 100% کے لیے تخفیف کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔)


مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کتنے کریڈٹ کا دعویٰ کرنے کا اہل ہوں؟

آپ کو اپنے ٹیکس ایڈوائزر یا اکاؤنٹنٹس سے بات کر کے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ٹیکس کریڈٹ آپ کے لیے کس طرح کارگر ہو سکتا ہے؟

اس کے علاوہ، NY State of Health کے اسمال بزنس منڈی کی ویب سائٹ پر ایک کیلکولیٹر موجود ہے جو آپ کے درخواست دینے سے پہلے آپ کو کریڈٹ کا ایک تخمینہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ویب سائٹ کے "آجر" والے سیکشن میں واقع ہے۔

ہیلتھ کیئر ٹیکس کریڈٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، IRS کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں:

[irs.gov/uac/Small-Business-Health-Care-Tax-Credit:-Questions-and-Answers](https://irs.gov/uac/Small-Business-Health-Care-Tax-Credit:-Questions-and-Answers)



آپ اپنے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن میں منسلک

آپ اپنے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن میں منسلک IRS فارم 8941 کے ساتھ اس ٹیکس کریڈٹ کا دعویٰ کر سکتے ہیں (ٹیکس سے مستثنیٰ اسمال بزنس کو دعویٰ کرنے کے لیے ایک فارم 990-T ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے، اگرچہ بصورت دیگر فائل کرنا مطلوب نہ ہو)۔

آپ اپنے ملازمین کے کوریج کے سلسلے میں جو زر تعاون دیتے ہیں اس پر وہ ٹیکس کے سزاوار نہیں ہیں۔

کیا مجھے کریڈٹ کا فائدہ مل سکتا ہے اگرچہ مجھ پر انکم ٹیکس کی کوئی جوابدہی نہیں ہے؟

ہاں، ہیلتھ کیئر ٹیکس کریڈٹ واپس لایا جا سکتا ہے اور پچھلے سال انکم ٹیکس کی جو جوابدہی عائد ہوئی تھی اس کو شروع کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا اگلے 20 سالوں میں ہونے والی جوابدہی کو شروع کرنے کے لیے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ ٹیکس سے مستثنیٰ کاروبار کے لیے یہ کریڈٹ قابل واپسی ہے۔

آخری ترمیم: 03/2016

یہ حقائق نامہ NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Access کے ذریعہ صرف معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کرایا گیا ہے۔ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے براہ کرم بیمہ دہندہ، بروکر، ٹیکس ایڈوائزر، یا ریاستی انتظامی حکام سے رجوع کریں۔ یو۔ایس۔ ٹریزری ریگولیشنز (U.S. Treasury Regulations) کے ذریعہ عائد کردہ تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ہم آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ اس مواصلت میں شامل سمجھے جانے والا کوئی بھی یو۔ایس۔ ٹیکس ایڈوائس (بشمول کوئی ملحقات) (i) انٹرنل ریویو کوڈ (Internal Revenue Code) کے تحت جرمانوں سے بچنے یا (ii) کسی لین دین یا یہاں مذکور کسی مسئلے کی تشہیر، مارکیٹنگ یا کسی فریق کے لیے اس کی سفارش کرنے کے لیے مقصود یا استعمال کرنے کے لیے تحریر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔